

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن نے عبوری طور پر چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر کی تقرری کر دی ہے

برامپٹن، آن (11 فروری 2022) – اپنی 11 فروری کی میٹنگ میں، سٹی کونسل نے یہ طے کیا کہ چونکہ یہ ادارہ کووڈ-19 سے کمیونٹی کی بحالی اور ایک مضبوط اور زیادہ قابل دوام مستقبل کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنے اگلے اقدامات اٹھا رہا ہے، لہذا کونسل متفقہ طور پر پال موريسن کو عبوری CAO کے طور پر مقرر کر رہی ہے۔ اس عہدے کو جلد از جلد مستقل بنیادوں پر پُر کرنے کے منصوبے پر پیش قدمی جاری ہے۔

پال نے شہر میں ڈائریکٹر آف لاء اینڈ انفورسمنٹ اور ایکٹنگ لیجسلیٹو سروسز کمشنر کے طور پر قائدانہ کردار ادا کیے ہیں اور وہ ہیملٹن پولیس سروس کے سابق سپرنٹنڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔

کووڈ-19 کے اس مشکل دور میں ہائی لاء ٹیم کی قیادت کرنے میں پال نے مستقل طور پر خدمات سر انجام دی ہیں۔

ہماری کونسل ڈیوڈ بیرک کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ ہماری تنظیم اور کمیونٹی میں شراکت کے لیے نئے مواقع کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس میں میکلینز کی جانب سے کینیڈا کی بہترین کمیونٹیز 2021 میں سے ایک کے طور پر حالیہ درجہ بندی حاصل کرنے کا اعزاز اور شہر کی جانب سے وباء کے خلاف ردعمل کی قیادت میں ان کی انتھک کوششوں کے علاوہ کینیڈاز بیسٹ ایمپلائز 2021 میں منتخب ہونے میں بھی ان کی کاوشیں شامل ہیں۔

سٹی آف برامپٹن کونسل کی ترجیحات کی اس مدت کے اہم کام کو آگے بڑھانے کی خواہشمند ہے، جبکہ اس دوران کمیونٹی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیزوں پر توجہ بھی مرکوز رکھی جائے گی۔

### اقتباسات

"میری جانب سے پیش کی گئی قرارداد اور تمام کونسل کی حمایت سے، ہم نے متفقہ طور پر پال موريسن کا انتخاب کیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کے دوران برامپٹن شہر کے خدمات سر انجام دیں اور ہماری معاشی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ قانون سازی کی خدمات، قانون اور نفاذ اور پولیس کے امور میں ان کا وسیع تجربہ انہیں ہماری کونسل کا عبوری چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر بننے کے لیے مفرد طور پر اہل بناتا ہے۔ پال کو ہمارا اعتماد حاصل ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)